

**8. AL-ANFAL (HARTO DAPET LEM PRANG)**  
**Suet ke-8: 75 ayat**

Ngen sembut gen Allah Maho Pengasiak,  
Maho Penyayang.

1. Si temnai ngen udi tentang (pagiak) harto rapas perang, kadeakba harto rapas perang-o milik Allah dan rasul kerno-o betawkaba ngen Allah bebuat baikba hubungan neak antaro sesamo udi ta'atba ngen Allah gen rasul-Ne amen udi oba tun-tun da beimen.
2. Sebeneane tun-tun da beimen-oba amen nadeak gen Allah gemteaba atei-ne dan amen nembaco ayat-ayat-Ne tambeakba imen-ne, ngen Tuhan-ba si betawakal.
3. (Dioba) tun-tun da temgok semyang ngen da melei pa-one kunei rezkai da K e m e   m e l e i   n g e n - s i
4. Do-oba tun-tun da beimen ngen sebenea-benea-ne, si paset dapet dau drajat da lekat neak sisi Tuhan-ne ngen ampunan kulo rezkai (ni'mat) dabaik.
5. Awei Thuan-ne meluak-ko aleu kune umeak-nu ngen kebenea padahal sebenea-ne pa-o kune tun-tun da beimen-o coa stuja.
6. Si melawenko tentang kebenea da sudo nyato (kerno si paset menang) awei si najok moi mati gidong si kemliak (sebab-sebab matei-o).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ  
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِعُوهُ  
اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١﴾

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلتَ  
قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلَيَّتْ عَلَيْهِمْ أَيَّتُهُ رَزَدَهُمْ إِيمَنًا  
وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ  
يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا هُمْ دَرَجَتُ  
رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةً وَرِزْقًا كَرِيمًا ﴿٤﴾

كَمَا أَخْرَجَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا  
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴿٥﴾

تُجْدِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَانَمَا يُسَاقُونَ  
إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٦﴾

7. Dan (ingetba) idong Allah jemanjai ngen udi bahwa saleak do kunei duwai golongan (da udi madep) do-oba utukmu idong udi lok bahwa da coa ade kekuatan senjatoba da utukmu, Allah kemlok untuk mbenea da benea ngen ayat-ayat-Ne, dan munuak abis tun-tun da kapea.

وَإِذْ يَعْدُكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الْطَّاغِتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ  
وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ  
وَبِرِيدُ اللَّهُ أَنْ تُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلْمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ  
**الْكَفِيرِينَ**

8. Buliak Allah tentep da haq (Islam) ngen mbatalkan da batil (syirik) walaupun tun-tun da menduso (musyrik)-o coa senang.

**لِيُحَقَّ الْحَقَّ وَيُبَطِّلَ الْبَطِلَ وَلَوْ كَرِهٌ**  
**الْمُجْرِمُونَ**

9. (Ingetba) idong udi minoi tulung ngen Tuhan-nu lajau kenabul utuk-nu sebeneane uku lok melei petulung ngen ko gen seribau malaikat da teko gilia-gilia.

إِذْ تَسْتَغِيْثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي  
مُمِدُّكُمْ بِالْفِيْ مِنَ الْمَلِئَكَةِ مُرْدِفِينَ

10. Allah coa jijai (kemirim pasukan)-o seluyen kabar riyang buliak ateinu iaji tentram kerno-ne, kemenangan-o adeba kunei sisi Allah, sebenea-ne Allah Maha Perkasa kulo Maha Bijaksana.

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرَى وَلِتَطْمِئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ  
وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
**حَكِيمٌ**

11. (Ingetba) idong Allah menea udi setekuk awei suatu penentram kunei-ne, Allah temu-un ngen udi ujen kunei lenget utuk mennyucaikan udi ngen ujen-o, dan meuak kunei udi gan(g)au-gang(g)au setan dan utuk kemwet ateinu gen temguak ngen-ne telapok kekea (nu).

إِذْ يُغَشِّيْكُمُ الْنُّعَاسَ أَمْنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ  
السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرُكُمْ بِهِ وَيُذَهِّبَ عَنْكُمْ رِجْزَ  
الشَّيْطَنِ وَلَيُرِيْطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُشَتِّتَ بِهِ  
**الْأَقْدَامَ**

12. (Ingetba) idong Tuan-nu mewahyu-kan ngen para malaikat sebenea-ne Uku besamo udi mako teguakba (pendirian) tun-tun da bik beimen, konyo lok Uku

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَشَتَّيْتُ  
الَّذِيْنَ ءَامَنُوا سَأْلَقِي فِي قُلُوبِ الَّذِيْنَ

cemucia assai saben moi lem atei tun-tun  
cape-a, mako kokoaba ulau-nu tebasba  
t i p - t i p u j u n g j i a i - n e

كَفُرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا  
مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٧﴾

13. (Tentau) da awei-o ba kerno sebenea-ne si temtang Allah ngen rasul-Ne, api da temtang Allah ngen rasul-Ne mako sebenea-ne Allah kemdiak yes sikso-Ne.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ  
الَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٨﴾

14. Do-o ba (ukum dennyo) da nelei utuk-nu mako keding ba hukuman-o sebenea-ne bagi tun-tun kapea ade (igai) sikso nrako.

ذَلِكُمْ فَدُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ النَّارِ  
﴿١٩﴾

15. Hoi tun-tun da beimen amen udi bertemau ngen tun-tun da kapea idong smrang ko mako jibekba udi kemdong-si (mundur).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا  
زَحْفًا فَلَا تُولُوْهُمُ الْأَدْبَارَ ﴿٢٠﴾

16. Aqpei udi da kemdong-si (mundur) neak waktau-o kecua bekilok utuk (perasaan) perang atau lok begabung ngen pasukan da luyen, mako sebeneane tun-o belek ngen mbin pengiak kunei Allah, dan plabaine-oba nrako jahanam, kemdiak kidekba plabai belek-ne.

وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقَتَالٍ أَوْ  
مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِعَضَّ مِنَ اللَّهِ  
وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبَئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٢١﴾

17. 'Mako (dasebeneane) iso udi da mbunuak si da sebeneane Allah ba mbunuak si, dan iso udi da meluk idong udi meluk tapi Allah ba da meluk (Allah menea awei-o utuk mbinaso udi). Dan utuk melei kemenangan ngen tun-tun mukmin dan kemenangan da baik, sebeneane Allah Paling Meni-uk kulo Paling Lebiak namen.

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ  
رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبَلِّيَ الْمُؤْمِنِينَ  
مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

18. Do-o ba (karunia Allah da melei ngen ko) dan sebeneane Allah melemuak tipu daya tun-tun da kapea.

ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهِنٌ كَيْدُ الْكَفِرِينَ ﴿٢٣﴾

19. Amen udi (tun-tun musyrik) mesoa keputusan mako bik teko keputusan ngen ko, dan amen udi bedan mako do-o bad a lebiak baik utuk nu dan amen udi belek paset Keme melek (kulo) ngen angkatan perang-nu agok debat coa ka dapet temulok kunei udi suatu bahayo pun walaupun si-o dau dan sebeneane Allah berpok tun-tun da beimen.

إِنْ تَسْتَفِتُهُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْهَاوْا  
فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعْدُ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ  
فِئَنُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرْتُ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

١٩

20. Hoi tun-tun da beimen ta'atba ngen Allah ngen rasul-Ne jibeakba udi muang papea kune-ne idong udi temi-uk (priteak-priteak-ne).

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا  
تَوَلُّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ

٢٠

21. Dan jibeakba udi menea awei tun-tun (munafik) da madeak : keme temi-uk, awok udi coa temiuk-ne.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا  
يَسْمَعُونَ

٢١

22. Sebenea-ne bnatang (mahluk) da kidek neak sisi Allah si-o ba tun-tun da stiuk dan coa meniuk da coa namen janoo bae.

\* إِنَّ شَرَ الدَّوَابَاتِ عِنْدَ اللَّهِ الْأَصْمُ الْبَكُومُ  
الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

٢٢

23. Dan amen skirone Allah namen adene kebaikan si, paset ba allah menea si dapet meni-uk, dan amen allah menea si dapet meni-uk paset si meuak kunei-o kulo meuak kunei dirai (kenei janoo da si temiuk - o ) .

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا سَمَعُوهُمْ وَلَوْ أَسْمَعُوهُمْ  
لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ

٢٣

24. Hoi tun-tun da beimen totoa ba da najok Allah gen da najok rasul amen rasul majok udi da melei kehidupan gen udi, namen ba bahwa sebeneane Allah membatasi antara manusia ngen atei-ne, sebeneane ngen Si-o ba udi lok kenopoa.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ إِذَا  
دَعَاكُمْ لِمَا تُحِبِّيْكُمْ وَأَعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ تَحْوُلُ  
بَيْنَ الْمَرءَ وَقَلْبِهِ وَإِنَّهُ إِلَيْهِ تُحَشِّرُونَ

٢٤

25. Dan peli haro ba dirai-nu kenei sikso da coa khusus tenipo tun-tun da zalim bae neak antaro udi. Namen ba bahwa Allah k e m d i a k g i s s i k s a a n - N e .

26. Dan inget ba (hoi para muhajirin) idong udi jumlahnu didik kulo tetindas neak mukop bumei (Mekeak) udi saben tun-tun (Mekeak) da cemulik udi mako Allah melei udi plabai da tep (Med(n)inak) dan nea-ne udi kuwet ngen petulung-Ne , dan kunei Ne rezkai da baik-baik buliak u d i b e s u k u r .

27. Hoi tun-tun da beimen jibeakba udi ngike ngen Allah dan rasyl\_ne (Muhammad) dan (kulo) jibeakba ngike amanat-amanat da bik nepercayo ngen ko awo udi namen.

28. Dan namen ba bahwa hartonu ngen anok-anok-nu-o hanyoba sebagai coba-an dan sebenea-ne neak sisi Allah ba pahalo d alai.

29. Hoi tun-tun da beimen amen udi betakwa ngen Allah paset Si lok melei ngen ko furqon ngen mapus kute-kute kesaleaknu dan mapun (duso-dusonu) dan Allah ade karunia da lai.

30. Dan (ingetba) idong tun-tun kapea (kuraisy) meker berupayo adepnu utuk temakep ngen penjara atau mbunuak ko atau musir ko, si meker tipu daya, dan Allah gemagal tipu daya-o, dan Allah kemdiak baik da males tipu daya.

وَأَنْقُوا فِتْنَةً لَا تُصِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ  
حَاصَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

وَادْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعِفُونَ فِي الْأَرْضِ  
تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ الْنَّاسُ فَإِنَّكُمْ  
وَأَيْدِيكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقْكُمْ مِنَ الظَّيْبَاتِ لَعَلَّكُمْ  
تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ  
وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ  
اللَّهَ عِنْدَهُ رَأْجُورٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَشْقُوا اللَّهَ تَجْعَلْ لَكُمْ  
فُرَقَانًا وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ  
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ  
أَوْ تُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ  
الْمَمْكُرِينَ ﴿٣٠﴾

31. Dan amen nebaco ngen si ayat-ayat Keme si madeak sebeneane keme bik temi-uk (ayat-ayat da awei-o) amen keme kemlok paset keme dapet mbacone da awei-o (quran) dio coa luyen ade ba cerito-cerito t u n - t u n b e l - o .

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا قَالُواٰ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ  
نَشَاءٌ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَاٰ إِنْ هَذَاٰ إِلَّا أَسْطِرٌ  
الْأَوَّلِينَ ﴿٢٩﴾

32. Dan (inget ba) idong udi (tun-tun musyrik) madeak : Hoi Allah amen benea (quran-yo), si-o bad a benea kunei sisi-Nu, mako ujen ba keme ngen butau kunei lenget atau kelei ba ngen keme a z a b d a g i s .

وَإِذْ قَالُواٰ اللَّهُمَّ إِنْ كَارَ هَذَاٰ هُوَ الْحَقُّ مِنْ  
عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَئْتِنَا  
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٠﴾

33. Dan Allah coa agok debat semikso si idong udi ade neak antarone, dan coaba (kulo) Allah memikso si idong si minoi apun.

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ  
كَارَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣١﴾

34. Gentai Allah coa mazab si padahal si menghalang tun utuk (teko) Masjidil Haram dan si coaba tun-tun da berhok menguasai-ne ? tun-tun da berhok menguasai-ne, hanyoba tun-tun da betakwa tapi dau si da coa namen.

وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أُولَيَاءَهُ  
أُولَيَاءُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا  
يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

35. Semyang si neka sekitar baitullah-o coa ade seluyen hanyoba sioa ngen tepuk tangen mako kedingba azab kerno kapea-n u - o .

وَمَا كَانَ صَلَاهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءَ  
وَتَصْدِيَةٌ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ  
﴿٣٣﴾

36. Sebeneane tun-tun kapea-o melei hartone utuk menghalangi (tun) kunei dalem Allah, si lok menafkahkan harto-o sudo-a ijai kesal utuk si dan si lok menea-ne moi nrako jahanam tun-tun da kapea-o k e n o p o a .

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ  
حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ

تُحَشِّرُونَ

37. Buliak Allah cem-ei (klopok) da kidek kune da baik, menea (klopok) da kidek-o paq-one neak das pa-o da luyen lajau kute-ne tenupuk-ne gen nepet moi lem nrako jahanam, si-oba tun-tun da rugai.

لِيَمِيرَ اللَّهُ الْخَيْثَ مِنَ الْطَّيْبِ وَجَعَلَ الْخَيْثَ  
بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَهِيْعًا فَيَجْعَلُهُ فِي  
جَهَنَّمُ اُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ

38. Kadeakba ngen tun-tun da kapea-o amen si bedan (kunei kapea-ne) paset Allah lok mapun si tentang duso-duso si da bel-o, amen si mulang igai, sebenea-ne lok berlaku (ngen si) sunnah (Allah) adep t u n - t u n d a b e l - o .

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرَ لَهُمْ مَا قَدَّ  
سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنُنُ الْأَوَّلِينَ

٢٣

39. Seranglah si buliak coa ade fitnah, buliak agamo-o niyen-niyan untuk Allah, amen si bedan (kunei kapea-ne) mako sebenea-ne Allah Paling mengeliak jano da si kemrejo.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ  
الَّذِينَ كُلُّهُمْ بِاللَّهِ فَارِبٌ أَنْتَهُوا فَارِبٌ اللَّهُ بِمَا  
يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

٢٤

40. Dan amen si bepaling mako namenba sebeneane Allah Pelindung-nu, Si-o ba sebaik-baik pelindung ngen sebaik-baik penuling.

وَإِن تَوَلُّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَانِكُمْ نَعَمْ الْمَوْلَى  
وَنَعَمْ النَّصِيرٌ

٢٥